


COVID-19 ویکسین کی دونوں خوراکیں لیں

COVID-19 ویکسین کی دونوں خوراکیں لینا یقینی بنائیں



1 اپنا COVID-19 ویکسینیشن کارڈ مت بھولیں!

جب آپ اپنا دوسرا ٹیکہ لگوائیں تو اپنا ویکسینیشن کارڈ ساتھ لائیں۔



2 اپنے دوسرے ٹیکے کے 2 ہفتے بعد آپ پوری طرح ویکسین شدہ ہو جاتے ہیں!

COVID-19 کی ویکسینیں آپ کے مدافعتی نظاموں کو یہ سکھاتی ہیں کہ اس وائرس کی شناخت اور اس سے مقابلہ کیسے کرنا ہے جو COVID-19 کا سبب بنتا ہے۔

3 محفوظ ہو جائیں

COVID-19 ویکسینیں اس وقت آپ کو بہتر تحفظ فراہم کرتی ہیں جب آپ دونوں ٹیکے لگوا لیتے ہیں۔

اپنی دوسری خوراک لیں تاکہ آپ مکمل طور پر محفوظ ہو جائیں۔

cdc.gov/coronavirus

